

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سوره غافر: ایات 21 - 50

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گان	کیف	فَيَنْظُرُوا	فِي الْأَرْضِ	يَسِيرُوا	أَوْلَمْ
آیا ولی نه دی	هغوي گرخیدلى راگرخيدلى	نو هغوي به کتلی وو چه	په زمکه کبن	شونکه	آیا ولی نه دی
أشد	هُمْ	كَانُوا	مِنْ قَبْلِهِمْ	كَانُوا	الَّذِينَ
					عِقبَةٌ
انجام	د هغوي چه	هغوي زيات سخت وو	د هغوي نه مخکبن	وو	د هغوي چه
الله	فَأَخْذَهُمْ	فِي الْأَرْضِ	وَءَاثَارًا	قُوَّةً	مِنْهُمْ
الله تعالی	پس او尼 يول هغوي	په زمکه کبن	او په اثار کبن / په نبیو	په طاقت کبن	د هغوي نه
۲۱	مِنْ وَاقِ	مِنْ اللَّهِ	لَهُمْ	وَمَا	بِدُنُوبِهِمْ
خوک بچ کولو والا -	د الله نه	د هغوي دپاره	وو	او نه	په وجه د هغوي د کناهونو

رُسُلُهُمْ	تَأْتِيهِمْ	كَانَتْ	بِإِنَّهُمْ	ذَلِكَ
رسولان د هغوي	راتلله به هغوي طرفته	وو	په وجه د هغوي چه هغوي	دا
الله	فَأَخْذَهُمْ	فَكَفَرُوا	بِالْبَيِّنَاتِ	
الله تعالی	پس اوニ يول هغوي	نو هغوي انکار او کرو	سره د واضحه نبیو	
۲۲	الْعِقَابِ	شَدِيدٌ	قویٌ	إِنَّهُ وَ
سزا والا ده -	سخت	پیر طاقتور ده	بے شکه هغه	

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورہ غافر: ایات 21 - 50

﴿٢٣﴾ مُبِينٌ	وَسُلْطَنٍ	بِإِيتَنَا	مُوسَى	أَرْسَلْنَا	وَلَقَدْ
- واضحه / بنکاره	او دلیل	سره د خپلو نبتو	موسى عليه سلام	اولیرو مونبر	او البتہ بے شکه

﴿٢٤﴾ گَذَابٌ	سَاحِرٌ	فَقَالُوا	وَقَرُونَ	وَهَامَنَ	إِلَى فِرْعَوْنَ
- ڈیر دروغزن	نو هغوئ اووئیل چه	جادوگر دے	او قارون	او هامان	طرفته د فرعون

آقْتُلُوا	قَالُوا	مِنْ عِنْدِنَا	بِالْحَقِّ	جَاءُهُمْ	فَلَمَّا
قتل کری	هغوئ اووئیل	حُمُونِر د طرفنه	حق	هغه راورو هغوئ طرفته	پس چه کله
نِسَاءَهُمْ	وَآسْتَحْيِوْا	مَعَهُ	ءَامَنُوا	آلَّذِينَ	أَبْنَاءَ
او ژوندی پریردی	او ژوندی	سره د هغه	ایمان راورے دے	د هغوئ بنسختی	خامن
﴿٢٥﴾ فِي ضَلَالٍ	إِلَّا	الْكَفَرِينَ	كَيْدُ	وَمَا	
په گمراھئ کبن -	مگر	د کافرانو	چال	او نه دے	

وَلَيْدُعْ	مُوسَى	أَقْتُلْ	ذَرُونِي	فِرْعَوْنُ	وَقَالَ
او پکار ده چه هغه اوبلى	او پکار ده چه هغه	حَمْلَة	پریردی ما چه	فرعون	او اووئیل
دینکم	یُبَدِّلَ	أَنْ	أَخَافُ	إِنِّي	رَبِّهُ
ستاسو دین	هغه به بدل کری	چه	حَمْلَة ویریرم	بے شکه حه	خپل رب
﴿٢٦﴾ الْفَسَادٌ	فِي الْأَرْضِ	يُظْهَرَ	أَنْ	أَوْ	
فساد -	په زمکه کبن	هغه به خور کری	دا چه		يا

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورہ غافر: ایات 21 - 50

وَقَالَ	مُوسَىٰ	إِنِّي	عُذْتُ	بِرَبِّي
او او فرمائیل	موسى عليه سلام	بے شکه خه	پناہ و اخسته ما	د خپل رب
وَرَبِّكُمْ	مَنْ كُلٌّ مُتَكَبِّرٌ	لَا يُؤْمِنُ	بِيَوْمٍ	الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾
او ستاسود رب	د هر تکبر کولو والا نه چه	نه هغه ایمان ساتی	په ورخ	د حساب -

وَقَالَ	رَجُلٌ	مُؤْمِنٌ	مَنْ إَعْلَمُ فِرْعَوْنَ	يَكْتُمُ	إِيمَانَهُ
او او وئیل	يو سری	مومن	د آل فرعون نه چه	هغه به پتوؤ	ایمان خپل
أَتَقْتُلُونَ	رَجُلًا	أَنَّ	يَقُولَ	رَبِّي	وَقْدٌ
آیا تاسو قتل کوئ	يو سرے	چه	هغه وائی چه	الله دے	حُمَارَبِ اللَّهِ دَه
جَاءَكُمْ	بِالْبَيِّنَاتِ	مِنْ رَبِّكُمْ	وَإِنْ	يَكُ	وَقَدْ
هغه را ورھے دے ستاسو طرفته	واضحة دلیل	او که چرے	ستاسود رب د طرفنه	او که چرے	هغه را ورھے دے
كَذِبًا	فَعَلَيْهِ	كَذِبُهُ	وَإِنْ	يَكُ	صَادِقًا
د روغزن	نُو په هغه باند دی	دروغ د هغه	او که چرے	وی هغه	ریشتنیے
يُصِبِّكُمْ	بَعْضٌ	الَّذِي	يَعِدُكُمْ	وَإِنْ	
او رسیری به تاسو ته	خَنَّ	هغه خه چه	هغه وعده کوئ ستاسو سره	بے شکه	
الله	لَا يَهْدِي	مَنْ	مُسْرِفٌ	كَذَابٌ ﴿٢٨﴾	
الله تعالی	نَه هغه هدایت ورکوئ	هغه (چه وی)	هغه	د حد نه وتلے	سخت دروغزن -

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورة غافر: ایات 21 - 50

فِي الْأَرْضِ	ظَهِيرَيْنَ	آلَيَوْمَ	آلِمُلْكُ	لَكُمْ	يَقَوْمٍ
په زمکه کبن	چه غالب به وي	نن ورخ	بادشاھي	ستاسو دپاره ده	اھ خما قومه!
جَاءَنَا	إِنْ	اللَّهُ	مِنْ بَأْسٍ	يَنْصُرُنَا	فَمَنْ
هـ مددکوي خمونبر طرفته	که چـ هـ	دـ اللـ هـ	دـ عـذـابـ نـهـ	پـ شـوـکـ بـهـ	پـ مـددـکـويـ خـمـونـبرـ
وَمَا	أَرَى	مَا	إِلَّا	أُرِيْكُمْ	مَا
اوـ نـهـ	حـهـ وـيـنـمـ	هـغـهـ چـهـ	مـگـرـ	حـهـ وـيـنـمـ تـاسـوـ	فـرعـونـ
﴿۲۹﴾ الرَّشَادُ		سـبـیـلـ	إِلَّا	أَهْدِيْكُمْ	
دـ خـيـرـ دـ رـشـدـ -		لـارـهـ	مـگـرـ	حـهـ بـنـوـدـلـےـ شـمـ تـاسـوـتـهـ	

إِنْ	يَقَوْمٍ	عَامِنَ	آلِذِي	وَقَالَ
بـ شـکـهـ خـهـ	اـھـ خـماـ قـومـهـ !	ایـمانـ رـاـوـرـوـ	هـغـهـ چـاـچـهـ	اوـ وـوـئـیـلـ
﴿۳۰﴾ الْأَحْزَابُ		يَوْمٍ	مـمـثـلـ	عـلـيـكـمـ
دـ چـلوـ (ـتـیـروـ)ـ -		دـ وـرـخـ	پـ شـانـ	خـهـ وـیرـیـمـ

وَالَّذِينَ	وَثَمُودَ	وَعَادٍ	نُوحٌ	قَوْمٍ	دَأْبٌ	مِثْلٌ
اوـ هـغـوـئـ خـوـکـ چـهـ	اوـ ثـمـودـ	اوـ عـادـ	نوـحـ	دـ قـوـمـ	حـالـتـ	پـشـانـ
لـلـعـبـادـ	ظـلـلـمـاـ	يـرـیـدـ	الـلـهـ	وـمـاـ	مـنـ بـعـدـ هـمـ	
پـهـ بـنـدـیـانـوـ بـانـدـ -	دـ ظـلـمـ	ارـادـهـ لـرـیـ	الـلـهـ تـعـالـیـ	اوـ نـهـ	وـرـوـسـتـهـ وـوـدـ هـغـوـئـ نـهـ	

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورة غافر: ایات 21 - 50

يَوْمَ الْتَّنَادِ ﴿٣٢﴾	عَلَيْكُمْ	أَخَافُ	إِنِّي	وَيَقُومِ
يو بل ته د چغه و هلو په و رع -	په تاسو باند	خه وييريم	بے شکه خه	او اے خما قومه !

لَكُمْ	مَا	مُدْبِرِينَ	تُولُونَ	يَوْمَ
ستاسو دپاره	په شا باند	نه (به وی)	تاسو بيرته اوگرخئ / تاسو واپس شئ	په کومه و رع چه به
الله	يُضْلِلُ	وَمَنْ	مِنْ عَاصِمٍ	مِنَ اللهِ
الله تعالی	بے لاري کري	او خوک چه	خوک بچ کولو والا	د الله نه
مِنْ هَادِ ﴿٣٣﴾			لَهُ	فَمَا
خوک هدایت و رکولو والا -			د هغه دپاره	نو نشته

بِالْبَيِّنَاتِ	مِنْ قَبْلُ	يُوسُفُ	جَاءَكُمْ	وَلَقَدْ
او البتہ	راغ ستابسو طرفته	يُوسف عليه سلام	د دے نه و راند	سره د واضحه د ليلونو
بِهِ	جَاءَكُمْ	مَمَّا	فِي شَكٍّ	فَمَا زِلْتُمْ
هغه	هغه راوري وو تاسو ته	د هغه خيز نه چه	په شک كين	نو مسلسل پاڼه شوئ تاسو
يَبْعَثُ	لَنْ	قُلْتُمْ	هَلَّكَ	إِذَا
راوليږي	هغه وفات شو	اووئيل تاسو چه	هغه کله به نه	تردي چه
الله	يُضْلِلُ	كَذَلِكَ	رَسُولًا	مِنْ بَعْدِهِ
الله تعالی	گمراه کوي	دغه شان	خوک رسول	الله تعالی

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورہ غافر: ایات 21 - 50

مُرتَابٌ ﴿٣٤﴾	مُسْرِفٌ	هُوَ	مَنْ
په شک کبن غورزیدلے -	د حد نه وتلے	وی هغه	هغه چه

سُلْطَنٍ	بِعَيْرٍ	اللهُ	فِي آيَتٍ	يُجَادِلُونَ	الَّذِينَ
د خه د لیل نه	بغیر	د الله تعالی	په ایتونو کبن	جگره کوی	هغه خلق چه
الَّذِينَ	وَعِنْدَ	اللهُ	عِنْدَ	مَقْتاً	أَتَهُمْ
د هغوي چه	او په نزد	د الله	په نزد	خبره د ناراضي	لويه ده راغلے وی هغوي طرفته
قلْبٍ	كُلٌّ	عَلَى	اللهُ	يَطْبَعُ	ءَامِنُوا
ذرۂ هر	په	الله تعالی	مهر لکوی	دغه شان	ایمان ئی را پرے دے
جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾			مُتَكَبِّرٌ		
سرکشه وی -			چه تکر کولو والا وی		

لِي	آبِن	يَهُمْنُ	فِرْعَوْنُ	وَقَالَ
حُمَا دِپاڑه	جور کرہ	اے هامان !	فرعون	او اووئيل
الْأَسْبَبَ ﴿٣٦﴾	أَبْلُغُ	لَعْلَى		صَرْحًا
په لارو باند -	اورسم خه	حکه چه خه	يو اوچت عمارت	

مُوسَى	إِلَيْ إِلَهٍ	فَأَطَلَعَ	السَّمَوَاتِ	أَسْبَبَ
د موسى	په طرف د اله	بیا خه اوگورم	د آسمانونو	په لارو باند

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورہ غافر: ایات 21 - 50

وَإِنْ	لَأَطْهُنْهُ	كَذِبًا	وَكَذَّلَكَ	زُينَ
او بے شکه خه	البته خه گمان کوم په هغه	د دروغڙن	او دغه شان	بنائسته کرے شو
لِفْرَعَوْنَ	سُوءٌ	عَمَلِهِ	وَصْدَ	عَنِ الْسَّبِيلِ
د فرعون دپاره	بَدْ	عَمل د هغه	او هغه منع شو	د لارے نه
وَمَا	فِرْعَوْنَ	إِلَّا	فِي تَبَابٍ	(٣٧)
او نه دے	چَال	مَكْرٌ	د فرعون	په هلاکت کبن / په تباہ کيدو کبن -

وَقَالَ	آلَّذِي	ءَامَنَ	يَقُولُم	أَتَبِعُونِ
او اووئيل	هَغَه چاچه	ایمان راپرو	اے خما قومه!	پیروی کوئ خما
أَهْدِكُمْ	سَبِيلَ	آلَّرَشَادِ	(٣٨)	- د رشد (هدایت) -
خه به اوښایم تاسو ته	لاره			

يَقُولُم	إِنَّمَا	هَذِهِ	الْحَيَاةُ	الْدُّنْيَا	مَتَّعٌ
اے خما قومه!	بِ شَكَه	دَا	ژوند	د دنيا	لبره فائده ده
وَإِنَّ	الْآخِرَةَ	هِيَ	دَارُ	الْقَرَارِ	(٣٩)
او بے شکه	آخُرٌ	هم هغه	کورده	د قرار / آرام -	

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورہ غافر: ایات 21 - 50

مُثْلَهَا	إِلَّا	يُجْزَىٰ	فَلَا	سَيِّئَةً	عَمَلَ	مَنْ
پشان د هغه	مگر	هغه له بدلہ ورکړے کېږي	نو نه به	بد	عمل اوکرو	چاچه
مُؤْمِنٌ	وَهُوَ	أُنْتَ	أَوْ	مِنْ ذَكْرِ	صَلِحًا	عَمِلَ
						وَمَنْ
او هغه	او هغه	بسْخَه	يَا	كَه سَرِيْه وَي	نيک	عمل اوکرو
مومن وي	مومن وي					او چاچه
يُرْزَقُونَ		الْجَنَّةَ		يَدْخُلُونَ		فَأُولَئِكَ
هغوي له به رزق ورکړے کېږي	په جنت کبن	په داخل به شي	چه داخل به شي			نوهم دغه خلق ده
(٤٠) حِسَابٍ			بِغَيْرِ			فِيهَا
د حساب نه -			بغير			په هغه کبن

أَذْعُوكُمْ	لِي	مَا	وَيَقْوِمْ
خه بلم تاسو	خما د پاره چه	خه دي	او اه خما قومه!
(٤١) إِلَى الْنَّارِ		وَتَدْعُونَنِي	إِلَى الْنَّجْوَةِ
طرفته د اور -	او تاسو بلئ ما	طرفته د نجات / د خلاصه	

بِهِ	وَأَشْرِكَ	بِاللَّهِ	لَا كُفَّرَ	تَدْعُونَنِي
سره د هغه	او چه خه شريک کرم	سره د اللہ	خه کفر اوکرم	tasoo blei ما چه
علم	بِهِ	لِي	لَيْسَ	ما
خه علم	د هغه	ما ته	نشته ده	هغه چه

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورہ غافر: ایات 21 - 50

﴿٤٢﴾ الْغَفَّرِ	الْعَزِيزُ	إِلَىٰ	أَدْعُوكُمْ	وَأَنَاٰ
دیر بخښې والا -	د پیر زبردست	طرفته	خه بلم تاسو	او خه

لَهُ	لَيْسَ	إِلَيْهِ	تَدْعُونَنِي	أَنَّمَا	لَا جَرَمَ
د هغه دپاره	نشته	هغه طرفته	تاسو بلئ ما	بے شکه	نشته خه شک
مَرَدَنَا	وَأَنَّ	فِي الْآخِرَةِ	وَلَا	فِي الدُّنْيَا	دَعْوَةُ
واپس کیدل ځمونږ	او بے شکه	په آخرت کېښ	او نه	په دنیا کېښ	بلنه
أَصْحَابُ	هُمْ	الْمُسْرِفِينَ	وَأَنَّ	إِلَى اللَّهِ	
ملګرۍ	هغه دی	چه خوک د حد نه وتلى وي	او بے شکه	طرفته د الله دی	
﴿٤٣﴾ الْنَّارِ					
- د اور -					

وَأَفْوَضُ	لَكُمْ	أَقُولُ	مَا	فَسَتَدْكُرُونَ
او خه سپارم	تاسو ته	خه وايم	خه چه	پس دیر ذر(زر) به تاسو یادکړئ
﴿٤٤﴾ بِالْعِبَادِ	بَصِيرُ	الله	إِنَّ	إِلَى اللَّهِ
د بنديانو -	بنه ليدو والا ده	الله تعالي	بے شکه	معامله خپله طرفته د الله

مَكْرُوْحٌ	ما	سَيِّئَاتٍ	الله	فَوَقْلَهُ
هغوي چالونه اوچلوں	خه چه	د بدئ نه / د شرنه	الله تعالي	پس بچ کړو هغه

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورہ غافر: ایات 21 - 50

﴿٤٥﴾	آلِ العَذَابِ	سُوءٌ	بِإِلٍ فِرْعَوْنَ	وَحَاقَ
- عذاب		بد	آل فرعون	او گیر کرل

وَعَشِيًّا	غُدُوا	عَلَيْهَا	يُعَرْضُونَ	آلَ النَّارِ
او مابنام	سحر	په هغے باند	هغوئ پیش کیری	اور
أَدْخِلُوا	آلَ السَّاعَةُ		تَقْوُمٌ	وَيَوْمَ
داخل کرئ	قيامت		قائم شی	او په کومه ورخ چه
﴿٤٦﴾	آلِ العَذَابِ		أَشَدَّ	آلِ فِرْعَوْنَ
- عذاب کبن		په ډير سخت		آل فرعون

الْضُّعَفَوْا	فَيَقُولُ	فِي الْنَّارِ	يَتَحَاجُونَ	وَإِذْ
كمزورے خلق	نو وائی به	په اور کبن	هغوئ په خپلو کبن جنگکیری	او چه کله
تَبَعًا	لَكُمْ	كُنَّا	إِنَّا	آسْتَكْبِرُوا
پیروی کولو والا	ستاسو	وو مومن	بے شکه مومن	تکبر کرے وو
﴿٤٧﴾	مِنَ الْنَّارِ	نَصِيبًا	مُغْنُونَ	أَنْتُمْ
د اور -	خه حصہ	خمومنو نه	لری کولو والا یئ	فَهَلْ
			تاسو	نو آیا

د قرآن نور

خلیرویشت جز - درس 237 سورہ غافر: ایات 21 - 50

فِيهَا	كُلُّ	إِنَّا	أَسْتَكْبِرُوْا	الَّذِينَ	قَالَ
په دے کبن يو	تول	بے شکه مونبر	تکبر کرے وو	هغوي چاچه	وائی به
﴿٤٨﴾ الْعِبَادِ	بَيْنَ		حَكْم	قَدْ	إِنَّ
د بندیانو -	په مینخ کبن	فیصلہ کری ده	یقیناً	اللَّهُ تَعَالَى	بے شکه

جَهَنَّم	لِخَزَنَةٍ	فِي النَّارِ	الَّذِينَ	وَقَالَ
د جهنم چه	دربانو ته	په اور کبن (به وی)	هغه خلق چه	او وائی به
یَوْمًا	عَنَّا	يُخَفَّفْ	رَبَّكُمْ	آذْعُوا
یوه ورخ	خمونبر نه	هغه سپک کری	خپل رب ته چه	دعا اوکری
﴿٤٩﴾ مِنَ الْعَذَابِ				
- د عذاب نه -				

رُسُلُكُمْ	تَأْتِيْكُمْ	تَكُ	أَوَّلَمْ	قَالُوا
رسولان ستاسو	راغلی ستاسو طرفته	وو	آیا نه	هغوي به وائی
فَادْعُواْ	قَالُوا	بَلَىٰ	قَالُوا	بِالْبَيِّنَاتِ
پس تاسو دعا کوئ	هغوي به وائی	ولی نه	هغوي به وائی	سره د واضحه نبتو
﴿٥٠﴾ فِي ضَلَالٍ	إِلَّا	الْكَفَرِينَ	دُعَوْا	وَمَا
ورکه شوی -	مگر	د کافرانو	دعا	اونه ده